

<p>بی سی جی کا ٹیکہ لگائے جانے سے پہلے کی معلومات اور رضامندی کا فارم Bacille Calmette-Guerin (BCG) pre vaccination checklist and consent</p>	SURNAME	D.O.B.	
	FIRST NAMES	AGE	SEX
	ADDRESS		
			POSTCODE
	TELEPHONE	M.R.N.	

Bacille Calmette Guerin (BCG) vaccination بی سی جی کا ٹیکہ لگائے جانے سے پہلے مندرجہ ذیل معلومات درکار ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ آپ ٹیکہ لگائے جانے کے اہل ہیں۔

مندرجہ ذیل شرائط کا لازمی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یا آپکے بچے کو آج ٹیکہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن نرس کو آگاہ کریں اگر ٹیکہ لگوانے والا شخص :

- آج بخیر نہیں ہے (مثال کے طور پر اسے درجہ حرارت 38.5 سنٹی گریڈ کا بخار ہے)
- اسکو ایسی بیماری ہے جس سے اسکا مدافعتی نظام کمزور ہو چکا ہے (مثال کے طور پر خون کا سرطان، سرطان، ایچ آئی وی، ایڈز یا ایسی بیماریاں جن سے بڈی کا گودا متاثر ہوا ہو یا لمفاوی نظام) یا وہ ایسا علاج کرا رہا/رہی ہو جس نے اسکے مدافعتی نظام کو کمزور کر دیا ہو (مثال کے طور پر سٹیرائیڈز پر مشتمل ادویات جیسے کہ کورٹی زون، پریڈنیزون، کیموتھیراپی یا ریڈی ایشن تھیراپی)
- اس پر کبھی ٹیکہ لگوانے کے بعد شدید ردعمل ہوا ہو۔
- اسکو شدید الرجی لاحق ہو۔
- وہ گذشتہ ماہ کے دوران کوئی اور ٹیکہ لگوا چکا ہو۔
- اسکا کسی تپدق زدہ شخص سے رابطہ رہا ہو یا تپدق زدہ شخص سے رابطے کے سلسلے میں وہ زیر تفتیش ہو۔
- اسکو تپدق سے بچاؤ کے لئے پہلے ہی سی جی کا ٹیکہ لگ چکا ہو۔

اُزراہ کرم ملاحظہ فرمائیں: بی سی جی کا ٹیکہ مندرجہ ذیل حالات میں نہ لگانے کی صلاح دی جاتی ہے۔

- ایسے اشخاص جنہوں نے ٹیوبر کولن سکن ٹیسٹ میں 5 ملی میٹر کے قریب ردعمل دکھایا ہو۔
- ایسے مریض جو " ایچ آئی وی " سے ملوث ہوں اور وہ لوگ جن کا مدافعتی نظام متاثر ہو چکا ہو (کیونکہ ایسے اشخاص میں بی سی جی کی آلودگی پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے)۔
- ایسے لوگ جو جسم پر بری طرح پھیلے ہوئے جلدی امراض میں مبتلا ہوں۔
- ایسے افراد جنہیں " ایچ آئی وی " سے اثر پذیری کا خطرہ ہو جہاں " ایچ آئی وی " کے خلاف مدافعت کی حالت نامعلوم ہو ۔
- حاملہ خواتین : ایسا کبھی ظاہر تو نہیں ہوا کہ بی سی جی کے ٹیکے نے جنین کو نقصان پہنچایا ہو لیکن زندہ ویکسین کو دوران حمل استعمال کرانے کی صلاح نہیں دی جاتی، اور
- ایسے لوگ جنہیں ماضی میں تپدق لاحق رہی ہو۔

اس کے علاوہ ایسے لوگوں کو جنہیں " کیلائیڈ سکار " (سطح جلد پر نمایاں داغ) جن کے جسموں پر واضح داغ پڑ جاتے ہوں ہدایت کی جاتی ہے کہ بی سی جی کا ٹیکہ لگائے جانے کی جگہ پر مستقل داغ باقی رہ سکتا ہے۔

برائے مہربانی بی سی جی کا ٹیکہ لگوانے سے پہلے نرس کو بتائیے اگر مذکورہ بالا حالات میں سے کوئی بھی حالت آپ پر یا آپ کے بچے پر منطبق ہوتی ہے۔ اگر ان معلومات کے سلسلے میں یا بی سی جی کے ٹیکے سے متعلق کوئی سوالات آپ کرنا چاہتے ہوں تو ازراہ کرم نرس کو ٹیکہ لگائے جانے سے پہلے پوچھیں۔

نرس آپ سے دریافت کرے گی کہ :

- آپ نے اس فارم اور بی سی جی کے ٹیکے سے متعلق فہرست معلومات کو پڑھ لیا ہے۔ اور یہ کہ
- آپکو ٹیکہ لگوانے کے ضمن میں فیصلہ کرنے کے لئے مزید معلومات کی ضرورت ہے۔

مجھے بی سی جی کے ٹیکے کے سلسلے میں فوائد و نقصانات سے آگاہ کر دیا گیا ہے اور امراض سینہ کے کلینک کی نرس سے اس موضوع پر بات کرنے کا موقع بھی ملا ہے۔ جو معلومات میں نے مہیا کی ہیں وہ میری آگہی کے مطابق درست ہیں۔

میں مندرجہ ذیل کو بی سی جی کا ٹیکہ لگائے جانے کے لئے رضامند ہوں
I consent to the administration of the BCG vaccine for:

غلط جواب کو کاٹ دیں
Cross out the incorrect response:

میرا بچہ / میں خود
MY CHILD / MYSELF

دستخط
Signature: _____

تاریخ
Date: _____

پورا نام لکھیں
Print Name: _____

قربابت
Relationship: _____

کلینک کی نرس / ٹیکہ لگانے والا کارکن
Chest Clinic Nurse / Immuniser:

پورا نام لکھیں
Print Name: _____

دستخط
Signature: _____

Comments: _____

